

# Signing ceremony of MoU for the construction of the Lalandar [Shatoot] Dam in Afghanistan

February 09, 2021

## نلاندری افغانستان نام

## رکے مفاہمت نامے پر دستخط کئے جانے کی تعمی شہتوت، باندهک” بی تقری

نئی دہلی، 9 فروری، 2021، افغانستان میں لاندر (شہتوت) بانده کی تعمیر کے مفاہمت نامے پر دستخط کئے جانے کی تقریب 9 فروری 2021 کو وی ٹی سی پر منعقد ہوئی۔ مفاہمت نامے پر وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف آمار نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور افغانستان کے صدر بز ایکسینسی ڈاکٹر محمد اشرف غنی کی موجودگی میں دستخط کئے۔

یہ پروجیکٹ بھارت اور افغانستان کے درمیان نئی ترقیاتی شراکت داری کا ایک حصہ ہے۔ لاندر (شہتوت) بانده کابل شہر کی پینے کے صاف پانی کی ضرورت کو پورا کرے گا، آس پاس کے علاقوں کی آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرے گا، موجودہ سینچائی اور پانی کی نکاسی کے نیٹ ورک کو بہتر بنائے گا، علاقے میں سیلاب سے تحفظ اور بندوبست کی کوششوں کو تقویت دے گا اور علاقے کو بجلی بھی دستیاب کرائے گا۔

بھارت اور افغانستان پرینڈ شپ ڈیم (سلمی ڈیم) کے بعد جس کا افتتاح وزیر اعظم اور صدر نے جون 2016 میں کیا تھا۔ یہ دوسرا بڑا بانده ہے جو بھارت، افغانستان میں تعمیر کر رہا ہے۔ لاندر بانده کی تعمیر کے مفاہمت نامے پر دستخط کیا جانا، افغانستان کی سماجی، اقتصادی ترقی اور دونوں ملکوں کے درمیان دیرپا شراکت داری کے تئیں بھارت کی مضبوط اور طویل مدتی عہد بندی کی عکاسی کرتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے ترقیاتی تعاون کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے 400 سے زیادہ پروجیکٹوں کو مکمل کیا ہے جو افغانستان کے سبھی 34 صوبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔

وزیر اعظم نے اپنے اظہار خیال میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تہذیبی رشتوں کو اجاگر کیا اور ایک پُر امن، متحد، مضبوط، خوشحال اور شمولیت والے افغانستان کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا۔